کریسنٹ

CRESCENT

25¢

INTERNATIONAL

330 HOLLYBERRY TRAIL, WILLOWDALE, ONT., CANADA M2H 2P6

MAY 1, 1977 BI-MONTHLY URDU-ENGLISH NEWSPAPER TO SERVE THE PAKISTANI COMMUNITY ABROAD VOL. 6, NO. 4

THE CRISIS CONTINUES,

DEATH TOTAL OVER 300
ARMY TOP BRASS SUPPORTS BHUTTO

RAWALPINDI (April 30): The protest march planned for today was disrupted by riot police and federal security force by using tear gas and "lathi-charge" against those who managed to come out in the streets.

Despite Strict restrictions on marches announced by the government and a total ban on people moving into the city, thousands took to the streets as announced.

PNA LEADERS ARRESTED

Throughout the week leading to the march, government forces rounded up opposition leaders of any stature throughout Rawalpindi, Lahore and the surrounding areas.

BUSES SEARCHED

All buses coming into the city were searched and any PNA sympathisers were either arrested or returned home.

In Islamabad itself, police re-inforcements were trucked in from all parts of the country to prevent what was likely to be the biggest march in Pakistan's history. Riot-police and FSF units were stationed at all strategic locations and managed to isolate pockets of demonstrators and then assaulted them.

Protesters fought pitched battles for hours, hurling bricks and stones at the police, who retaliated with tear gas and gun-fire. Scores of people were injured but no deaths were reported.

The acting president of the PNA, Pir Pagaro, who was put under house arrest and prevented from joining the march was visited by Bhutto at his hotel. No details of the content of their discussion was released.

In the afternoon Bhutto is also reported to have driven in an open jeep in the streets of Rawalpindi, cheered by plain-clothes policemen brought into the streets. He also delivered a speech once again accusing the Americans of mounting a big campaign against him.

U of T Post for Pakistan's Ambassador ?

Toronto. Crescent Special

Pakistan's new envoy to Ottawa may be seeking a teaching post in the Department of Islamic Studies at the University of Toronto. 'Crescent' has learnt from reliable sources that the ambassador Dr. Afzal Iqbal had several meetings with staff-members from the Islamic Studies Department during his recent visit to Toronto starting April 2, 1977. The visit initially scheduled for one week was extended for another week in order to facilitate these meetings.

A spokesman for the Islamic Studies Department, when asked about the possibilities of the ambassador joining the department said, "We might like but I don't think it will be possible. The last time we lost two staff members and could not acquire any new ones." What did they think of the ambassador? "Oh we were quite taken in by him, he is a very interesting man."

Dr. Afzal Iqbal has written several books on Islam but it is not clear whether his contact with the University was the result of any teaching opportunities or a general desire to quit the diplomatic service because of recent disturbances in Pakistan.

Air Marshal Rahim Expected in US & Canada

Madrid:


'Crescent International' has been informed by very reliable sources that Air Marshal Rahim Khan who resigned in protest over Bhutto's policies is expected in the United States and Canada. Air Marshal Rahim established a noble precedence when he resigned from Bhutto's government over the barbarity of his regime and rigging of elections.

'CRESCENT' contacted the air marshal in Madrid at his residence but was out at the time. For further information call CRESCENT 493-4374 497-9623

STOP PRESS!

There are unconfirmed reports from Islamabad that Prime Minister has agreed to hold fresh Federal elections.

A GLIMPSE OF PAKISTAN



THE RAY OF LIGHT *photo by owaisk*

COMMUNITY NEWS

Sentences Increased for Race Offenders


Toronto:
Two Scarborough men Steven Ingram and Thomas Grimsdale had their sentences increased from 21 to 30 months and 16 to 24 months respectively by a Crown Court in Toronto. The two were found guilty of assault causing bodily injury to Shamsuddin Kanji on the Islington subway in January 1976. The Provincial Attorney General, Roy McMurtry appealed against the light sentences they had got and Judges Charles Dubin, Arthur Martin and Maurice Lacourciere upheld Attorney General's appeal.

The Ontario Attorney General has taken a bold and courageous stand against race offenders in the Metro area.

The victim, Shamsuddin Kanji 49 has sustained permanent injuries and may never walk normally again. He received $15,000 compensation for his injuries.

Pitman Due In Jami Mosque

(Toronto); Chairman of Metro's Task Force, Walter Pitman will be at the Mosque on sunday May 8th to receive briefs or have discussions with



Muslims who want to give suggestions on combating racism in Metro Toronto. All are welcome and requested to make their views felt.

PAKISTANI

PROFESSOR APPOINTED

CHAIRMAN OF THE CLASSIFICATION APPEAL BOARD

EDMONTON: Dr. Syed Hameed professor of Industrial Relations at the University of Alberta, has been appointed by Honorable Merv Leitch, Provincial Treasurer, Government of Alberta, as Chairman of the Classification Appeal Board. The Board is composed of six members which include three senior Government officials and three representatives from the Alberta Union of Provincial Employees. The Board is constituted under the Public Service Act to hear appeals and make binding awards on matters of classification. The Board's jurisdiction extends over approximately 25,000 employees of the provincial government.

Toronto Meeting Condemns Bhutto Regime

Toronto: A meeting of Pakistani Canadians organized by the Pakistan Student's Association and Council of Pakistani-Canadians was held at the International Students Centre on Saturday April 16, 77.

The meeting chaired by Yaqoob Ashraf, Jamal Zafar and Nasim Butt reviewed the crisis in Pakistan. It was addressed by Asaf Shuja, Aslam Khan Nazeer Sadar, Zafar Bangash, Dr. Qadeer Baig, M. Rafiq and Khwaja Sardar Butt.

A resolution was later presented condemning the rigging of elections in Pakistan, condemning strongly the barbarity of FSF and police in shooting at unarmed people and calling upon Bhutto to resign and hold fresh elections immediately. The resolution was presented by Jamal Zafar and seconded by Arshad Javaid and passed overwhelmingly.

MILAD IN SUDBURY

The Muslim Association of Sudbury under the Presidentship of Professor A. Zia celebrated Eid-i-Milad-un-Nabi on Sunday, March 13, 1977 at Cambrian College, Notre Dame Campus. It was attended by about 200 Muslims and those interested in Islam.

Ontario Elections – June 9

Queen's Park: Following a crucial vote in the provincial legislature on Thursday April 27, 1977 in which the Tory government was defeated, the minority government called for a June 9 election.

The other two parties, the NDP and the liberals were reluctant for an election at this stage but the Tories want to improve their minority status.

CRESCENT urges its readers to take an active part in the election so that provincial candidates take note of our presence. Thsi would also be an opportunity to get more involved in Canadian affairs.

News Perspective

April 16:
As strikes and demonstrations continued throughout Pakistan, Bhutto hauled in thousands of his supporters into Lahore for a showdown with the masses.
A procession of PNA supporters was fired upon from a cinema killing three people. The cinema belonging to a PPP member was quickly set on fire.
As a diversionary tactic, Bhutto ordered the repeal of press censorship law, inforce for 14 years.

April 17:
In a news conference in Lahore Bhutto announced a ban on alcohol and gambling and lifted restrictions on public meetings. He also announced that the old Islamic Council will be revived to determine whether Islamic laws could be instituted in the country within six months. The PNA and people of Pakistan rejected Bhutto's sudden conversion to Islamic laws by coming out in the streets in force.
Bhutto called on Maulana Maududi to start a dialogue with the opposition but soon after the meeting at the Maulana's house Maududi issued a statement demanding Bhutto's resignation.
Shaukat Hayat and seven other members of the PPP called for holding fresh elections. There were rumours that Shaukat Hayat was planning to introduce a no-confidence motion against Bhutto when he was sacked from the party.

April 18:
Serious clashes in Lyalpur left 5 dead and scores injured as police and FSF opened fire on a student procession. Similar processions were taken out in Karachi, Hyderabad, Multan, Lahore and Peshawar.
One person killed in Karachi.
In Karachi, it was reported that the inspector-general of police refused to carry out orders to shoot and was sacked from his post immediately.
Bhutto flew out of Lahore to Islamabad pretending all was well.
The army arrested a number of government officials handing out arms and ammunition to PPP supporters in various parts of the country
The government placed an order for 6000 cannisters of tear gas which had run out because of its excessive use in the recent demonstrations against Bhutto.

April 19:
Hired thugs of the PPP demonstrated in Lahore in support of Bhutto. A much larger and vocal demonstration soon developed and clashes between the two left at least three dead.
The movement against Bhutto has become widespread and it is no longer confined to the opposition demands for fresh elections

April 20:
Karachi was totally paralyzed as unions came out on strike again st the government.
At least 18 people were killed, two over-run by a Karachi-Lahore train when people tried to stop it. The angry crowd set the train on fire and ripped parts of the track. Over 150 injured.
Karachi port, the airport, telephone exchange and all other services were totally shut down in response to the strike call by Pakistan Labour alliance. Karachi Labour leader gave Bhutto three days to quit or else. . . . . .
In Lahore 36 labour leaders called on Bhutto to resign immediately.
The US government banned the shipment of tear gas to Pakistan. A state Department spokesman said that "circumstances have changed substantially" since March 17 when the contract was signed for the purchase of tear-gas.

April 21:
An immediate curfew was imposed in Karachi starting 6 a.m. Karachi time. The Sind government ordered police and the uncivilized FSF to 'shoot-to-kill'.
Curfew was later extended to Hyderabad and Lahore as well.
In Athens Gen. Gul Hasan, the former ambassador to Greece called upon the armed forces to overthrow Bhutto's illegal regime.
Martial Law was declared in Karachi, Hyderabad and Lahore.

April 22:
During the four-hour ease in curfew restrictions, people once again took to the streets in Karachi where the army is reported to have shot dead at least 33 people.
Massive demonstrations and processions were taken out in Sargodha, Lyalpur, Rawalpindi and Islamabad as well in response to a call by the PNA for a general strike. Almost the entire country was paralyzed and observers described the strike very successful
Meanwhile Bhutto went ahead with a meeting of his MNA's most of whom had to be trucked into Islamabad in armoured cars and police personnel carriers.
The final death toll for the day was put at 38.

April 23:
There were further demonstrations in cities not under curfew or martial law. Two people were reported killed and several injured in Nawabshah and Sialkot.
Curfew was later extended to Sialkot, Sargodha and Lyalpur.
The Acting President of PNA, Nasrullah Khan and several other PNA leaders were also arrested, including Begum Wali Khan.
In an emergency meeting, Pir Pagaro, President of Muslim League was elected the new president of PNA.
PNA also announced a 2 million people's march on Prime Minister's house in Rawalpindi next saturday.

April 24:
Curfew regulations were slightly eased in Karachi and Hyderabad but restrictions remained in force in Lahore, Sialkot and Lyalpur.
Press censorship was imposed again and the government announced that no news of call for Bhutto's resignation should be reported in the papers.
Pakistan's ambassador to Cairo, Ahmed Saeed Kirmani resigned in protest over Bhutto's policies.

April 25:
There were rumours that Bhutto had a 2½ hour meeting with Maulana Mufti Mahmood and later a number of opposition leaders were taken to Sihala rest house near Islamabad for discussion and consultations.
There were indications that Bhutto had put forward new proposals including new elections to the national assembly in return for opposition dropping their demand for his resignation. No confirmation of this was given by PNA spokesmen but Pir Pagaro met jailed PNA leaders at Sihala.
The government instituted new tough measures against processions and threatened people not to take part in the demonstration planned for Saturday.

Pakistan's Charge d'Affair in Paris, Iqbal Reza resigned in protest over government's policies.

April 26:
FM Aziz Ahmed accused the BBC of giving undue importance to news against the government and little about what Bhutto had done. The BBC promptly denied the charge. Further arrests of PNA leaders took place including Maulana Fateh Mohammad, labour leader Mehrban Khan and Jan Abbasi. A PNA spokesman said over 200 members were arrested in the last two days in order to harass them and prevent the march from taking place. Armed forces Chiefs announced their support for Bhutto's regime.

April 27:
In a speech to the National Assembly debating the present crisis in Pakistan, Bhutto accused the Americans of supporting the PNA to unseat him. He cited his own achievements as reasons why the US wanted to get rid of him. Both the Americans and PNA denied the charge and called it "absurd". Bhutto further charged that people had been 'bribed' to take part in the strikes.

April 28:
Further PNA leaders were arrested in an effort to prevent or disrupt the planned march on saturday, including Shaukat Hayat.
A PNA spokesman said it can account for every Rupee spent by them and asked, 'How can you bribe people to come and get shot?'
Police and FSF are blocking movement of PNA supporters into Rawalpindi by searching buses, trains and trucks and turning away anyone looking like a PNA supporter.
PNA called its supporters to come out along the 274 miles route from Lahore to Peshawar to demonstrate against the government. Pir Pagaro accused Bhutto of closing all doors on negotiations.

April 29: Two Arab ministers from Saudi Arabia and United Arab Emirates arrived in Pakistan to mediate between the PNA and Bhutto. They were reported to have held discussions with Maulana Mufti Mahmud.

April 30: The mass march on Bhutto's house was disrupted by police and FSF who turned out in strength to prevent it. Hundreds of PNA leaders and supporters were arrested jailed just before the march, including Pir Pagaro, the acting PNA president. Over 20 people were reported injured but no deaths were reported.

There were rumours of fresh elections agreed to be by Bhutto.

CRESCENT International

338 Hollyberry Trail, Willowdale, Ont., Canada M2H 2P6

Phone: (416)493–4374

EDITOR: M. Lateef Owaisi

"Second Class Mail, Registration No. 3981"

OUR REPRESENTATIVES AROUND THE WORLD

ENGLAND – Sajjad H. Naeem, 28 Homesdale Road, Bromley – Kent.
MANCHESTER (U.K.) – Yasien Agha. KUWAIT – Kafeel Owaisi.
DETROIT – Hadi Jafry. NEW YORK – Tariq Hafeez, Badar H. Junjua.
CALGARY – Javed Iqbal. MONTREAL – Masood Ahmed.
SOUTHERN & MID WESTERN STATES – – – – – Shaheen Mirza.

Subscription Rates

CANADA & USA		OTHER COUNTRIES
Six Months	$ 5.00	One Year by Air Mail $12.00
One Year	$ 8.00	
Two Years	$14.00	

The Continuing Crisis

Pakistan's two month-old crisis is not over yet. The rigging of March 7 national elections aroused strong resentment throughout the country which quickly snowballed into a general campaign against Bhutto himself. The movement brought to surface the brewing discontent within the society which had been ruthlessly suppressed for the last five years.

The movement had assumed such enormous porportions that even if the alliance had wanted to curtial it, they may not have managed. Disgruntled political workers, students, teachers, lawyers, retired judges and even labour came out in support of PNA demands for fresh elections and Bhutto's resignation. It was at this stage that the army stepped in to rescue Bhutto. Even the most ardent Bhutto supporters concede that their man was gone had it not been for army's sudden (or not so sudden) support for Bhutto's regime

The martial law slapped on three most affected cities Karachi, Hyderabad and Lahore and curfew in three others coupled with new press censorship created an atmosphere of uneasy calm. Also more opposition leaders were rounded up and thrown into jail. While the PNA announced a mass protest march on Bhutto's house in Islamabad, the armed forces chiefs made an unprecendented pledge of support to Bhutto. The tables seemed to have been turned suddenly.

The army's action certainly appears to have contained the situation though it cannot be considered over. The calm restored in Karachi and Hyderabad by the first martial law in March was shattered as soon as the army was withdrawn. It is also unclear how far the army would go on doing dirty work for Bhutto. For the moment, however, because of strict press censorship and restrictions on reporting any calls for Bhutto's resignation, there is a semblence of return to normalcy. Also negotiations are reported to be under way to arrive at some agreement.

While the political agitation appears abating, the economic activity will take much longer to restore. Already over $300 million worth of damage to property, industry and buildings has been reported. With curfew in most areas, closure of factories, shops and banks, total inactivity at docks coupled with withdrawal of funds from the banks (estimated at Rs.35 crore on the first day of PNA call) the economy of the country remains in shambles. Overseas Pakistanis are withholding their money, foreign aid donors have cancelled their planned meeting and with prices sky-rocketing in the country, the situation remains grim.

In the midst of all this, charges by the government of foreign intervention, particularly by the CIA or America, have a distinctly hollow ring to it. While CIA/American or any other foreign intervention cannot be ruled out a mass movement of this kind cannot be dismissed as foreign inspired. Without doubt the election was rigged (it has now been admitted) and that there was mass discontent over economic mismanagement and political suppression. The election campaign and its after math provided a vent for such discontent.

There are currently rumours of negotiations and even mediation by some Arab representatives. If true, they provide the only hope ful sign in an otherwise hopeless situation. There is a need for a breakthrough in the deadlock but nothing short of a fresh election will do. It appears likely that the PNAwill forego their demand for Bhutto's resignation in return for fresh and fair elections guaranteed by a clear and precise agreement. Anything less than that will have solved nothing and another round of mass orgy of killings will commence. Already over 300 lives have been destroyed and thousands have been injured simply because someone is not sure of winning an election. So much for the sanctity of human life. Mass movements cannot and have not been supressed. Use of brute force against the people will produce its own response; the tide of people will go on, sweeping leaders, governments and policies with them. History bears witness to this fact.

SAYINGS OF MUHAMMAD

PEACE BE UPON HIM

THE LAST PROPHET

HYPOCRISY AND OSTENTATION

✻

God does not look at your forms and your possessions, but He looks at your hearts and your deeds.

✻

When a man prays publicly in a good manner, and prays secretly in a good manner, God most high says, "This is My servant indeed."

INSOLVENCY AND RESPITE

✻

A man used to make loans and say to his servant: "When you come to one who is in straitened circumstances forgive him, for, perhaps, God may forgive us!" He said that when he met God He forgave him.

✻

He who grants a respite to one who is in straitened circumstances or who remits his debt will be saved by God from the anxieties of the Day of Resurrection.

✻

If anyone accepts other people's belongings meaning to pay back, God will pay back for him, but if anyone accepts them meaning to squander them, God will on that account destroy his property.

INTERCESSION REGARDING PRESCRIBED PUNISHMENTS

✻

The Quraish were anxious about the Makhzūmi woman who had committed theft and asked, "Who will speak to God's Messenger about her?" Then they said, "Who will be bold enough for it but Usāma b. Zaid, God's Messenger's friend!" So Usāma spoke to him and God's Messenger said, "Are you interceding regarding one of the punishments prescribed by God?" He then got up and addressed them, saying, "What destroyed your predecessors was just that when a person of rank among them committed a theft they left him alone, but when a weak one from among them committed a theft they inflicted the prescribed punishment on him. I swear by God that if Fāṭima, daughter of Muhammad should steal I would have her hand cut off."

✻

Enforce God's prescribed punishments on those who are near (to you in relation) and those who are distant, and let no one's blame come upon you regarding (the enforcement of) God's punishments.

Letters to the editor

HUMAN LIVES IN PAKISTAN

Dear Sir:

The news from Pakistan of political killings and indiscriminate shooting into the crowd by armed policemen should be most disturbing to all the people, who have respect for human life. According to the official count, up to now three hundred people have died either through police shooting or civil strife among rival groups, since March 7, 1977. It is hair raising to read, "two people were crushed under the wheels of a locomotive..' regardless of the political side one takes. (Reuter report from Pakistan of April 20, 1977)'

The Helsinki Charter lays down that there can be a time when personal freedom and security for life become more than the internal affairs of a country. It will be a pity if we interpret the Charter strictly on ideological grounds, and not the basic tenets of civilization – preservation of human life against brutality of governments or civil strife out of desperation. With this principle in the forefront, we should, in North America and elsewhere, urge that the government of Pakistan take every step to bring sanity to the country, immediately.

It should be forcefully emphasized that under any organized government, security of life is the first and foremost right of the people, and so it is the basic duty of the government to safeguard this right if it claims any authority to rule.

Yours truly,
Jamil Rashid.
KINGSTON.

Letter Sent To Ambassador of Pakistan

Dear Mr. Ambassador,

The present crisis in Pakistan, caused by massive rigging and fraud in the March 7 national elections has brought anxiety and anguish to Pakistanis throughout the world. It has been further compounded by the reckless and brutal response of the government through police and the federal security force in indiscriminate firing on unarmed civilians.

As a protest against this barbaric act, several ambassadors have already handed in their resignations; others are in the process of doing so.

You are a student of Iqbal and Maulana Muhammad Ali, the two most eminent personalities of the subcontinent who persistently fought against tyranny, suppression and subjugation by the British. The people of Pakistan are currently undergoing similar suppression by an illegal regime.

There is no doubt now that Bhutto rigged the recent elections to stay in power. The people of Pakistan have quite rightly and justly revolted against this illegal act to sabotage their verdict. They have laid down their lives willingly for the cause of freedom and democracy.

We call upon you to follow the glorious example of the people of Pakistan and your other distinguished colleagues who have resigned in disgust from Bhutto's regime. The welfare of Pakistan demands that all men of faith and integrity condemn Bhutto's illegal regime and dissociate themselves from it immediately.

The people of Pakistani origin in Canada, and indeed all over the world, are waiting for your resignation in protest over the rigging of elections and Bhutto's terror tactics.

We hope you will not fail them

Yours very truly,
Pakistan Study Circle.

God will on ...erty.

...RDING ...SHMENTS

Yours truly,
Jamil Rashid.
KINGSTON.

Army's Role

Contrary to popular expectations, the armed forces suddenly came to Bhutto's rescue just over a week ago to contain a situation which was rapidly getting out of hands. There was shock and dismay throughout the country as army units took up positions in at least three cities to impose martial law.

Until that time there were intense speculations that the army was about to withdraw its support from Bhutto and pack him off to some distant land. So why this sudden Voltz- face by the army?

Notwithstanding the appointments of several generals by Bhutto personally, superceding other senior ranking officers, the mood of the officer corps appeared distinctly against Bhutto's regime. There were rumours of insubordination and at least on April 9, the fateful day when police shot dead 33 people outside the Lahore High Court grounds, the army refused to bale out the police or FSF personnel. The actual reasons for army's action how are difficult to gauge but there are a number of plausible theories advanced by informed observers.

The most repeated explanation is that the majority of the officer corps saw their easy-living life style threatened by the puritanical pronouncements of the Alliance and opted for Bhutto's regime even if was unpopular.

Another theory contends that Bhutto sought, and the generals conceded, a little more time in negotiating a settlement with the jailed opposition leaders. Further, that Bhutto impressed upon the generals to contain the rising tide of mass upheaval so that the alliance could be persuaded to negotiate, without the backing of the masses.

While the first theory carries some weight it is well-known that with the exception of the top leadership in the army, the remainder of the officer corps and even the ranks are split in their loyalties. Only the bitter experience of Bangladesh and army discipline is keeping them in check. Also, the thought that a deep division within the army ranks will certainly finish the army as a fighting machine may dampen any hasty decisions.

The more plausible theory appears to be a request for a little more time by Bhutto to have another go at negotiating a settlement. In itself a more reasonable approach, there is doubt whether Bhutto is really serious about negotiations at all. So far his offers have been totally unrealistic and late, judjing by the mood of the country. His best public offer has been to hold provincial elections and based on that, announce a re-run for the national assembly. The alliance of course has already rejected such an offer.

There is little doubt that army's intervention has saved Bhutto's skin for the moment; it is also clear that the alliance does not want a showdown with the army the violent incident of Friday 22 April in Karachi Notwithstanding. Even if they did, the unarmed and untrained civilians would be no match for a professional army.

Perhaps the army feels that with a weakened Bhutto they carry a greater leverage than they would if a popular alliance came to power. Also, it is rumoured that the army is now pressing Bhutto to be more flexible in his approach to negotiations. If this is true, the army generals for once may be playing a good role and may help resolve a crisis without burning their fingers. Of course there is also the possibility that the generals have been outwitted by Bhutto (Tikka Khan's appointment as Minister of State for defence is a strong incentive) with promises of a "rosy future". Foreign minister Aziz Ahmed has angrily denied this charge.

Whatever the reason, army's involvement has dampened passions and may allow for a more reasoned approach to the crisis. If it continues for any length of time, there is every likelihood that the people will take on the army, regardless of the price. The army should know this if it has read the posters on the walls in Lahore. And people have the moral authority behind them.

Occupation in London Embassy

(From Our Own Correspondent)

London (England).

Pakistanis in London occupied the Pakistan Embassy for 3 hours in protest over the mass-killing of people in Pakistan. The protesters demanded the resignation of Bhutto and fresh elections in Pakistan. They were persuaded to leave the embassy after three hours. No charges were laid against anyone.

Pakistani people throughout Britain are extremely angry and disturbed over the brutaities committed by the Bhutto regime. Several demonstrations have been taken out throughout England, particularly London.

In a response to a call by the PNA, people in England have stopped sending money to Pakistan for the moment. Funds are being collected for victims and their relatives who are being brutally suppressed and terrorized by the federal security force and police.

Telegrams Sent To Ambassadors Of Pakistan & Leaders Of The World

TELEGRAM sent to :
King Khalid, Riyadh, Saudi Arabia and Heads of States of various Islamic countries

Please intervene to prevent the massacre of Pakistani-people by Bhutto's illegal regime.

TELEGRAMS
Sent To Ambassadors

In view of the illegal regime established through election rigging by Bhutto's government, we call upon you to resign, following the glorious example of your distinguished colleagues Airmarshal Rahim Khan and Gen. Gul Hasan.

The people of Pakistan have laid down their lives for democracy. The least that can be expected of men in Pakistan services is to for them to dissociate themselves from an illegal and despotic regime publicly.

We ask you to resign in the name of democracy and people's rights in Pakistan.

****

Ambassador Yaqoob Khan
Pakistan Embassy,
Washington

The civil war in Pakistan demands great sacrifices from all Pakistanis. People in pakistan have laid down their lives for democracy.

We urge you to resign for the sake of Pakistan and democracy, as you did during the Bangladesh crisis.

How Can Pakistan Liberate Kashmir ?

Toronto:

A Canadian of Kashmiri origin, in an emotional address to the meeting of Pakistani-Canadians on Saturday April 16, 77 at the International Students Centre asked how could Pakistan to liberate Kashmir when there wasn't Islam even in Pakistan? Reviewing the present crisis in Pakistan; Mr. Rafiq said, that the people of Kashmir would like to be with Pakistan but when the government of Pakistan goes about killing its own people, what hope do the Kashmiris have? He felt and strongly urged the audience that the only solution to Kashmir's liberation lay in the liberation of the people of Pakistan from tyranny, suppression and dictators. The people of Kashmir would get great moral encouragement from such a development.'

Multiculturalism Portfolio Gets New Minister

OTTAWA: St. Boniface, Manitoba M.P. Joseph Guay, former Minister of State without Portfolio,was sworn in as Minister of State Responsible for Multiculturalism in a ceremony yesterday at Government House. He takes over the portfolio from Labour Minister John Munro who was responsible for the Multiculturalism Program since 1974.

In a statement, Mr. Munro said he was very pleased at the appointment of Mr. Guay. The multiculturalism portfolio has become an increasingly demanding one and the appointment of a minister with sole responsibility for it reflects the importance the government attaches to this policy, Mr. Munro said.

He said several new initiatives have been undertaken in the past year both by the program and by the Canadian Consultative Council on Multiculturalism under the chairmanship of Senator Peter Bosa.

Mr. Guay's long experience in public life and in Parliament and his association with ethno-cultural groups in his home province of Manitoba will serve the policy well, he said.

Mr. Munro assured Mr. Guay of his support in the future developments of the Multiculturalism Program as well as continued support for projects such as third language programs which are already under way.

Bhutto's External Props.

The Soviet Union has been a traditional enemy of Pakistan, missing no opportunity to indulge in intrigue, either directly or indirectly, against Pakistan. It therefore came as a surprise when Radio 'Peace and Progress' supported Bhutto's re-election and praised him as a man destined for great things in Asia. It must clearly be amusing to people that Soviet Union whose hostility towards anything Islamic should suddenly turn about and support the head of an 'Islamic government. Radio 'Peace and Progress' went on to condemn the 'reactionary opposition parties' who were bent on instituting Islamic laws in the country.

On the other obscene fringe, the Shah of Iran who has set up a reign of terror in his own country is reported to have threatened the Pakistan armed forces that if they attempted to overthrow Bhutto, Iran would intervene. Such a threat could not be taken lightly if it comes from a country supposed to be friendly to Pakistan. It is clear now that the type of government Pakistan should have would be determined by the Shah and not by the Pakistani people, according to the Shah. It is a challenge to Pakistan's sovereignity and will be interesting to see whether the government or the heads of the armed forces will take note of it. For the moment, however, it seems the generals have agreed to be dictated to by Iran!

Capital Punishment

By Hyder Rabbani

(Sociologists, psychologists, parliamentarians and law-enforcement officers in the West, indeed in almost all societies are continuously arguing about crime and punishment. Admittedly the whole structure of society, relationships of the family and different levels of the society themselves affect the type and nature of crime.

In an Islamic society if the means of a decent livelihood are available, lawbreakers are strictly punished, unless of course proven mentally unstable. Below, Hyder Rabbani, 16 discusses his views on capital punishment from an Islamic point of view.) Editor.

In this modern world there are many crimes committed every day, yet each one is different. Would cutting off a person's hand be a suitable punishment for stealing or a fine and probation are better?

If a person is not punished adequately he may go out and commit the same crime again, knowing that he may get off easily. But if one of his hands is cut off, it will be an example to others, and other people will think before committing crimes, knowing that the consequences will result in their hand being cut or even death.

For the crime of murder what is a suitable punishment ?, beheading or imprisonment for a minimum of ten years ?

In Islam the Qur'anic law states that beheading and cutting off the hands are correct punishments.

In Islam every human being is equal in front of Allah whether he be a king or a beggar. The most recent example of equality is the case of the late King Faisal. He was killed by his own nephew, but even though the killer was a member of the Royal family, he was not exempt from the Sharia (religious) court's decision.

Capital punishment has been a great controversy in North America over the past few years.

There are some people who argue that capital punishment is inhumane, and a primitive method of punishment yet it is evident that it has prevented crime and deaths.

Capital punishment in Saudi Arabia has reduced murders to only 2 every twenty five years; yet in this modern society of Ontario, there were 49 murders in 1976 alone !

The Saudis must be doing something right if their homocide rate is so low. The answer lies in capital punishment either by decapitation, hanging or even by a firing squad.

Islam is a moderate but strict religion. If someone is caught stealing, he does not get his hand cut off immediately. There is a trial and an investigation into his background, and his financial status. The government tries to establish why he has stolen and witnesses are questioned by the Qazi (judge). Based on all these factors the Qazi determines the type of punishment.

We can all see the results of the use of capital punishment and decide which method of punishment is most effective.

Pakistan League of US & Canada Condemn Bhutto Regime

(From Our New York Correspondent)

New York, April 22, 1977: An emergency meeting of Pakistan League of America and Canada was held here presided by the Secretary-General, Mr. A.H.Butt and attended by the President of New Jersey Chapter, and other members of the League. A resolution was adopted in the meeting condemning the Bhutto regime and his Federal Security Force, which is responsible for mass killings of women and children. The League supports whole heartedly the stand of the people and PNA that Bhutto must resign and seek re-election if he thinks he can win. It recalled the role that Bhutto played in the dismembering of Pakistan, and the crocodile tears he shed in the United Nations after the fall of Dacca. It recalled that when the country was at war Bhutto was pretending to be sick and boycotted the Security Council meetings, so that his evil scheme of dismembering Pakistan could precipitate. League has urged all Pakistani Organizations the world over to demonstrate before the Pakistani missions and embassies and also to urge friendly countries to break off relations with the illegal and illegitimate Bhutto regime. The League in a separate resolution sent to the White House has urged President Carter to break all ties with the illegal regime and speak publicly in support of the people of Pakistan and condemn mass murders committed in Pakistan by Bhutto.

The League has set up a working committee to organize protest march on the UN and also on Pakistan Embassies.

The working committee to be headed by Mr. Khalid Khan has been given authority to organize an international body of Pakistanis abroad and the name has been tentatively approved as Pakistan International League, (P.I.L.)

The aims and objectives of the

The aims and objectives of the PIL would be to bring together various Pakistani Organizations all over the world and to establish a joint voice for the people of Pakistan. To safeguard the ideology of Pakistan, to launch a worldwide struggle to dislodge the oppressive regime of Bhutto, to ensure that no other dictator can flourish in Pakistan and to awaken public opinion in various parts of the world.

Information about PIL and how to join it can be obtained from the PIL office:–

PIL

P.O. Box 3023,

Wayne, N.J. 07470.

World Opinion Wake Up !

(From Our New York Correspondent)

New York, April 21, 1977: Pakistan has become a country of corpses. This was disclosed to our correspondent by the Pakistanis arriving from various parts of the country in to the United States. There are reports that over 1037 people have been killed by either the Security Force of Mr.Bhutto or by the police and the peoples guard an auxilary of Peoples Party.

There are reports that blood plasma, X-Ray films, and medicines are in short supply, there are no Hospital beds available in any part of the country and fracture cases are treated without taking any X-Ray films. Only those are admitted whose lives are in critical danger and whose days are numbered. It is also reported that those arriving into the hospitals for medical attention are being arrested after being manhandled by the peoples party workers.

In Karachi itself the number of casualties are running in hundreds and people are giving themselves up for arrests. A state of total confusion prevails in the country and people are asking questions whether the President of Pakistan can also be tried alongwith the Peoples Party Government for failing to respond to the call of the people and safeguarding their interest, this question of loyalty either to Mr. Bhutto or to the country is also being asked by the armed forces of Pakistan and it is feared that a second level military coup is imminent if the situation is not properly handled by the high ranking military officers.

There are also reports that a certain faction of PNA is considering to run a parallel government inorder to save the country from further destruction. If this happens it is feared that the country is bound to have a civil war and Mr. Bhutto will try to put the blame on the opposition and declare Martial Law to his liking.


There is total confusion among the civil services, who are at a loss to understand what orders to take.

One eye-witness account, his voice choked with emotions, narrated a tale of how his close friend was arrested and beaten. He asked a question as to why Mr. Carter, a champion of human rights has not so far come out to condemn the atrocities being carried out in Pakistan in the name of Democracy? He urged the US Government, the Congress and the Senate to stop all military and economic aid to Mr. Bhutto, till such time that elections are held in a fair manner and the trust of the people is restored. He pointed out that the small arms obtained by Mr. Bhutto are being used by his Federal Security Force to destroy democracy in Pakistan, and to keep an illegitimate regime in power.

سری لنکا میں پاکستانی فلموں کی باقاعدہ نمائش کے امکانات روشن ہیں، عزیز احمد

فلمی میلہ کا افتتاح سری لنکا کی وزیر اعظم مسز بندرا نائیکے نے کیا

لاہور۔ سری لنکا میں پاکستانی فلموں کی باقاعدہ نمائش کے امکانات بہت روشن ہیں اور توقع ہے کہ فلموں کی تجارت کے سلسلہ میں جلد ہی کوئی راہ ہموار ہو جائے گی۔ یہ بات پاکستان فلم ترقیاتی کارپوریشن کے سکریٹری مسٹر عزیز احمد نے ایک ملاقات کے دوران بتائی جو حال ہی میں سری لنکا میں منعقد کئے جانے والے فلمی میلہ میں پاکستانی صنعت کی نمائندگی کر کے وطن واپس پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس میلہ میں سات پاکستانی فلمیں نمائش کے لئے پیش کی گئی تھیں جنہیں سری لنکا کے عوام میں بے حد پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس میلہ کا افتتاح سری لنکا کی وزیر اعظم مسز بندرا نائیکے نے سری لنکا کی روایات کے مطابق "شمع" روشن کر کے کیا۔ اس تقریب میں ان کے علاوہ سری لنکا کے مختلف محکموں کے نمائندے کے علاوہ متعدد شخصیات اور عوام نے بھی بھاری تعداد میں شرکت کی۔ مسٹر عزیز احمد نے بتایا کہ سری لنکا میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے سری لنکا میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے سری لنکا کے نائب وزیر خارجہ ... سے ... اقتصادی امور ... کے ذریعے ... ہو سکتا تاکہ ... اور سری لنکا کی سٹیٹ فلم کارپوریشن کے چیئرمین سے ملاقات کے دوران سری لنکا میں پاکستانی فلموں کی نمائش اور مشترکہ فلم سازی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کی روشنی میں توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سلسلے میں جلد ہی کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس میلہ میں جو پاکستانی فلمیں نمائش کے لئے پیش کی گئیں ان میں حسن طارق کی "تہذیب"، اقبال رضوی کی "محبت اور مہنگائی"، اسلم ڈار کی "دل لگی"، اقبال شہزاد کی "بدنام"، سلیمان کی "زینت" اور ہدایت کار نذر شباب کی "شبانہ" شامل ہیں۔



پاکستانی فلمی میلے کی مہمان خصوصی سری لنکا کی وزیر اعظم مسز بندرا نائیکے اپنی شمع نئی روایات کے مطابق بہت سے چراغ روشن کر کے میلے کا افتتاح کر رہی ہیں۔ سری لنکا میں پاکستان کے سفیر مسٹر عبدالرؤف خان تصویر میں نمایاں ہیں۔

فلم

فلمی صنعت کا احوال — بہار کا موسم رخصت ہوا، اب خزاں کی آمد ہے

گرد و غبار کی آندھیوں نے فضا کا اجلا دامن میلا کر دیا ہے اب شہر لاہور کو وہ جانفزا خوشبو اور جھونکا ... جشن بہاراں ... ویرانی سی ہے شہر نگاراں ... صبح کے ... حالات کی ... فلموں ابھی تک ... فلم انڈسٹری کی ... سیٹ پر فلمساز و ہدایت کار ... شوٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ... ان سنگین مسئلے کا جلد از جلد اور خاطر خواہ کوئی حل نکلا تو فلمی صنعت کا ایک نیا باب ... ہدایت کار ... آغا جی ... ان کی نئی فلم ... کے سیٹ پر ملاقات ہوئی ... اظہار خیال کرتے ہوئے ... بصورت حال ... فنکار ... حالات کا تقاضا ہے ... فلم کی ... کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔

تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فلمسازوں کی انجمن کے چیئرمین سید عطاء اللہ شاہ ہاشمی اور عامر ... متعلقہ حکام سے بات چیت کرنے اور اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لئے اسلام آباد گئے ہیں۔ تمام فلمساز ان کی واپسی کے منتظر ہیں اور ان کی طرف سے لائی گئی خوشخبری کا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔



• بابرا شریف • ایک چہرہ دو روپ •

مختصر مختصر اشتہارات

ضرورت رشتہ

ایک ... سالہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی سنی مسلم لڑکی کے لئے اچھے مسلم سنی لڑکے کی ضرورت ہے جو اعلیٰ تعلیم کی کوئی ڈگری کینیڈا یا امریکن یونیورسٹی کی رکھتا ہو اور مستقل طور پر امریکہ یا کینیڈا میں سکونت پذیر ہو۔ لڑکی کے والدین ڈاکٹر ہیں اور مستقل طور پر کینیڈا میں رہتے ہیں۔ براہ مہربانی خط بمعہ فوٹو اس پتہ پر ارسال کریں۔

S. H.
C/O Crescent

ایک پاکستانی سنی مسلمان عمر ۳۰ سال کے لئے کینیڈا یا امریکہ میں مقیم امیگرنٹ لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔ تفصیلات کے لئے لکھئے یا فون کیجئے۔

Mrs. Khan
P.O.Box 811
Sudbury, Ont.
Phone:(705)673–8585

برائے فروخت

کریسنٹ ٹاؤن ٹورانٹو میں دو بیڈروم اپارٹمنٹ پرائیویٹ طور پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ خواہشمند حضرات شام چھ بجے کے بعد فون کریں۔

Phone: 493–4374

کار برائے فروخت

۱۹۷۴ ماڈل فورڈ MAVERICK صرف ... فروخت کی جا رہی ہے۔ خواہشمند فون کریں۔

Phone: 226–6777

مختصر اشتہارات کا معاوضہ صرف پانچ ڈالر ہے۔ رقم پیشگی ادا کرنی ضروری ہے۔



طلعت اقبال اور ...

غلط مستقیم ... غلط فہمی ... غلط نامہ ... غلط شکستہ ... غلط اصطلاح ...

ندا مختصر

محفلِ شعر و سخن

(شعرائے اُردو کا تاریخ وار سلسلہ)

بادۂ کہن

ریاضؔ خیرآبادی

اُٹھتے آتے تو سے لب تک جو تبسم بن جائے
اِس ادا سے کبھی ہم سے بھی جو پیماں کر لو
چھلکائیں لاؤ بھر کے گلابی شراب کی
تصویر کھینچیں آج تمہارے شباب کی
توبہ سے ڈرایا مجھے ساقی نے یہ کہہ کے
توبہ شکنی کے لئے اصرار نہ چھوڑو

جام سے توبہ شکن توبہ مری جام شکن
عالمِ ہُو میں اِک آواز سی آجاتی ہے
بہار آتے ہی پھولوں نے چھاؤنی چھائی
نشیمن میں گزرے، کئی موسمِ گل
کیا حسرت سے رخصت صبح کے تاروں کو یہ کہہ کر

ساتھ ڈھیر ہیں لوٹے ہوئے پیمانوں کے
چپکے چپکے کوئی کہتا ہے فسانہ دل کا
کہ ڈھونڈتا ہوں مگر آشیاں نہیں ملتا
قفس میں جو ٹوٹے تھے، وہ پر نہ نکلے
کہ جن کا شام سے تھا آسرا اب تک نہیں آئے

ریاض احمد نام، ریاضؔ تخلص، ۱۲۷۰ھ میں خیرآباد ضلع سیتاپور (اودھ) میں پیدا ہوئے۔ بزرگ ایران کے رہنے والے تھے۔ مورثِ اعلیٰ مغلیوں کے عہد میں ہندوستان آگئے اور خیرآباد میں سکونت اختیار کی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سید طفیل احمد سے پائی اور شاعری میں امیرؔ لکھنوی سے فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد امیرؔ مینائی کے شاگرد ہوئے اور استاد کا نام روشن کیا۔ زندگی کا زیادہ حصہ گورکھپور میں گذارا۔ ۱۹۳۴ء (۱۳۵۲ھ) میں خیرآباد میں وفات پائی۔ ریاضؔ پاکنفس اور پاک دل اور سچے مسلمان تھے۔ ان کا یہ انداز تخیل اُن کی شاعری تک محدود تھا۔ جو رنگ تغزل میں دیکھا وہ اُن کا حال نہ تھا۔ ایک بزرگ تھے اُن کی خمریات کا کیا کہنا۔ انہوں نے شراب اور صہبا پر شراب کو جس طرح اشعار میں برتا وہ انہیں کا حصہ تھا۔ ۲۹۶ شعر شراب کے کہے ہیں ان میں سے ہر شعر ایک نئے پہلو کا آئینہ دار ہے۔ ریاضؔ عوام اور خواص کے شاعر ہیں، اُن کے کلام سے ہر شعر کا آدمی لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اُن کی شاعری میں ایک خاص لطف ہے جو زبان، انداز بیان کی برجستگی اور جدت طرازی سے پیدا ہوتا ہے۔ ریاضؔ کی شاعری خود اُن کی طرح چلبلی، شوخ، آزاد اور بیباک ہے۔ اس پر اُن کے مخصوص استاد... [illegible] ...مزہ دیتے ہیں۔

جامِ نو

غزل

خانۂ دل میں صنم بیٹھ گئے
پاسبانانِ حرم بیٹھ گئے
برسرِ دار گرجنے والے
تو شمشیرِ ستم بیٹھ گئے
دل کے آئینے پہ گزرے ہوئے دن
صورتِ گردِ الم بیٹھ گئے
اپنی قسمت پہ ہم اشکار رہے
در و دیوارِ حرم بیٹھ گئے
اب اُٹھے ہو تو چلو ہمسفرو!
پھر نہ اُٹھیں گے جو ہم بیٹھ گئے
تیرا میخانہ سلامت ساقی
چند احباب بہم بیٹھ گئے
دشتِ امکاں میں سفر کیا انجمؔ
چل کے دو چار قدم بیٹھ گئے

انجم رومانی

طنز و مزاح

چٹکیاں

اقبال یونس خان (ٹورانٹو)

قائدِ عوام سے خطاب

اے عوامی لیڈر! الیکشن کے بعد سے آپ کی ہستی گم ہے! ہمیں آپ سے ہمدردی ہے! الیکشن کے نتیجے کے بعد پہلے تو آپ نے بہادر کی طرح طاقت دکھائی۔ حزبِ مخالف کو خون! خاک! کی آپ نے۔ [illegible] لگ رہا ہے تو آپ نے چھٹکارا اور فیصلہ کا شروع کیا! [illegible] ہو گیا تو تعجب آپس کر کے کھلواڑ کا اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی پینتیس سیٹیں دینے کی پیش کش کی۔ [illegible] کے سامنے ہڈیاں ڈال دیں۔ مگر یہ کتے پھر بھی بھونکتے ہی رہے۔ دلیسی ہیں نا! ہمیں آپ سے بہت ہمدردی ہے! مگر یہ تو بتایئے کہ یہ سیٹیں بانٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ کیا یہ راجہ داہر سے جاگیر آپ کے خاندان کو ملی تھی؟ اگر ان سیٹوں کی تقسیم کا حق آپ کو حاصل تھا تو الیکشن کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ الیکشن کے ہر کس پر اتنا پیسہ خرچ کر کے عوام کا کیوں برباد کیا؟

[illegible]

میرا لیکا... [illegible] ...آپ خود ہمارے کی فکر کرو! [illegible] آج! ہمیں آپ سے بڑی ہمدردی ہے! جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا مولانا مودودی اور ان کی جماعت نے مطالبہ کر دیا کہ شریعت کو نافذ کرو۔ گذشتہ تیس سال میں ہر حکومت کی پوری مشینری مودودی اور ان کی جماعت کا منہ بند کرنے کی پوری کوشش کرتی رہی۔ [illegible] مودودی کو موت کی سزا سنائی [illegible]۔ [illegible] ہمارے ملک میں مودودی کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ آج وہ حقیقی رہنما ہیں۔ [illegible] قائدِ عوام! [illegible] آپ [illegible] پاکستان [illegible] آپ جانتے ہیں مولانا [illegible]!!! کیا خطا [illegible] قائدِ عوام! آپ کہیں بہت پیچھے تو نہیں رہ گئے۔ [illegible] ہمدردی ہے!

[illegible]


قائدِ عوام! ہمیں آپ سے ہمدردی ہے
اور تھوڑی تھوڑی آپ کے چمچوں سے بھی!
گویا جمہوری کھوپڑیاں کہتی ہیں کہ حزبِ مخالف
کو پاکستان سے اگر خدا ہی غائب ہوتی تو ان

[illegible]

مشیّت

محمد حفیظ تکبیر قریشی
(ٹورانٹو)

جھیل کے اس پار
ہموار سطح پر ... ایک میدانی علاقہ ہے
جس پر سرما میں ... شمال چلتی ہے
آئندہ سال جب برف ہوگی
تو یہ جھیل بھی برف بن جائے گی
لیکن اس وقت
اس کی کبھی اونچی اُٹھتی لہریں
اور کبھی مدھم
اور کبھی ہلکی نیلی ۔ اور کبھی سبز گہری
یہ حرف کیف آلود پیار کی لہریں
... آتی ہیں اور ... جاتی ہیں
یہ لامتناہی سلسلہ
... کو ... رکھتا ہے
زندگی کا ... ہے
... سی ... ہیں
بس موجوں کا تلاطم ہے
... خوشگوار ... ہوا
... بارش کے قطرے
لالہ و گل سے زمین کی ... سجانے آتے ہیں
میں بیٹھا سوچتا ہوں
کیا یہی مشیّت ہے!



بہنوں کی محفل

بچہ اور ماں

بیگم نصرت حمید

بچے کو بڑھتے اور پروان چڑھتے دیکھنا والدین کے لئے مسرت اور انبساط کا باعث ہوتا ہے۔ نشوونما ترتیب اور باقاعدگی کا ایسا سلسلہ ہے جس سے تمام بچوں کو گزرنا پڑتا ہے لیکن یہ امر بھی تسلیم شدہ ہے کہ اس باقاعدہ سلسلہ کو ہر بچہ اپنی منفرد رفتار سے طے کرتا ہے۔ جس طرح بچے

جسمانی ساخت اور دوسری صلاحیتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور کوئی بھی دو بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح ان کی نشوونما کا ڈھنگ انفرادی ہوتا ہے۔ یہ بچے انداز سے بڑھتے ہیں۔ ہر بچہ کی جسمانی، سماجی، ذہنی اور جذباتی نشوونما میں ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے۔ جسمانی اعتبار سے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچہ نئی نئی تعلقات پیدا کرتا ہے۔ نئے نئے اور ... حاصل کرتا ہے۔ نئے تعلقات قائم کرتا ہے۔ نئے الفاظ سیکھتا اور تجربات حاصل کرتا ہے۔

بچے کی نشوونما کے مشاہدہ کی اہمیت اور طریقے

بچہ کو سمجھنے کے لئے اس کا مشاہدہ بے حد ضروری ہے ...

... مہینے کی عمر میں وہ صرف کھسک کر آگے بڑھتا ہے بلکہ اس سے کھیلنے لگتا ہے۔

اس قسم کا تدریجی تسلسل بچے کی نشوونما کے ہر پہلو میں پایا جاتا ہے لیکن یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ ایک بچہ عمر کے کس حصے میں نشوونما کے مخصوص مدارج کو طے کرے گا۔ ہم نے گزشتہ کی نشوونما کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ حاصل ایک معیار ہے جس کو بہت سے بچوں کے مشاہدہ کی روشنی میں مقرر کیا گیا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اسی مخصوص عمر میں ... سیکھ لے ... آپ کو پتہ چلے گا کہ خود ایک ہی بچہ کی ... کتنا اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے۔

بچوں کے مشاہدہ کے طریقے

بچوں کے مشاہدہ کے طریقے بہت سے ہیں لیکن ...

بچے کے پروان چڑھنے کا ریکارڈ رکھیئے

ہم آپ کو صرف وہ طریقہ بتائیں گے جس پر آپ بخوبی آسانی سے عمل کر سکتی ہیں ...

باشعور ماں کو اپنے بچے کی نشوونما کا دھیان رکھنا چاہیئے

...

بچے کے کرداری نقشے کو ایمانداری سے پُر کیجیئے

...

نمک پارے

...

خوانِ نعمت

گاجر کا اچار

...

ترکیب

...

(۱۰) کو بچی ڈال دیں۔ اچار تیار ہے۔

(۱۱) اچار تین ہفتہ تک دھوپ میں رکھنے کے بعد استعمال میں لائیں۔

نئے تارکینِ وطن کیلئے مفت

نئے ملک اور اجنبی ماحول میں آنے والے ہر تارک وطن کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے ادارہ کریسنٹ بخوبی واقف ہے۔ اسلئے ہم ... گاہے ایسے مضامین اور خبریں شائع کرتے رہتے ہیں جن سے نئے تارکین وطن خاص طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ امریکہ یا کینیڈا میں حال ہی میں آئے ہیں تو ہمیں درج ذیل کوپن پُر کر کے بھیجئے۔ ہم آپ کو تین ماہ تک کریسنٹ مفت ارسال کرتے رہیں گے۔

NAME: . . . . PHONE: . . . .

ADDRESS . . . .

. . . .

DATE OF ARRIVAL . . . .

OCCUPATIONAL BACKGROUND . . . .

پندرہ روزہ

کریسنٹ انٹرنیشنل

شورو ٹوکینیڈا

اَلَآ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰہِ لَاخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

خبردار کو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے (القرآن)

جناب بھٹو کے لیے آخری موقع

قومیتوں کے کھیل نمایاں ہو گئے ہیں۔ انسان اپنی طرف سے پوری صلاحیت و ذہانت بروئے کار لا کر حالات کو پلٹنے اپنے حق میں بدلنے کی بہت کچھ تدبیر کرتا ہے۔ لیکن جب پردہ اٹھتا ہے تو اس کی تدبیر خود اس کے بیچ اس مقدر و تقدیر کی تمہید نظر آنے لگتی ہے۔ مسٹر بھٹو نے ۲۸ مارچ کو جب اپنی وزارت عظمیٰ کی دوسری میعاد کا حلف اٹھایا تھا، تو اپنی تقریر میں انھوں نے اپوزیشن کو خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ و ثقافتی کے انداز میں یہ کہا تھا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی شامل ہو یا نہ ہو وقت کا کارواں چلتا رہتا ہے۔ لیکن صرف ہفتہ دس دن کے مختصر وقفے میں حالات میں جس نوعیت اور انداز کی تبدیلی ہوئی ہے، اس کے آثار یہ ظاہر کرتے لگے ہیں کہ بعض شاہین خواب ادھورے ہونے بھی وہ خود ہی وقت کی رفتار کا ساتھ نہیں دے سکے بلکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ خود ان کے ہاتھ سے بھی نکلتا جا رہا ہے۔

اپریل کو جب مسٹر بھٹو پنجاب اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے لیے لاہور پہنچے تو ... دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ... اور صوبائی حکومتوں کے قیام کی رسم ادا کرنے میں کامیابی ہے ... حالات پر ان کی گرفت بظاہر اتنی مضبوط تھی کہ انھوں نے اخباری نمائندوں سے بات چیت میں یہ کہا تھا کہ اگر ان کا "موڈ" ہوا تو وہ لاہور میں قیام کے دوران میں اپوزیشن کے ایک دو لیڈروں سے ملاقات کرنے کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن اگلے ہی پنجاب اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ... فضا میں ہوا، اور اسمبلی چیمبر کے گرد و پیش میں جو کچھ ہوا، اس نے سارا نقشہ حالات کچھ اس طرح زیر و زبر کر دیا کہ صرف تین چار دن بعد مسٹر بھٹو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پارلیمنٹ سے ... وزارتیں جلد بنوتی جا سکتی ہیں اور اس کے لیے وہ خود اپوزیشن رہنماؤں کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ وہ اسے ان کی کمزوری تصور کریں گے۔

مسٹر بھٹو کو بظاہر لاہور میں بھی وہی کامیابی حاصل ہو گئی تھی جس نے اس سے قبل اسلام آباد اور پھر کراچی، کوئٹہ اور پشاور میں ان کے قدم چومے تھے لیکن یہی اس مرحلے میں قدرت ... اصول "وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا" اپنے انداز میں کارفرما ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن، انقلابی دانشور اور اس ملک کی معیشت کا عرصہ دراز تک بیڑا غرق کرنے والے سابق وزیر خزانہ اور حال سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مبشر حسن نے اپنے اس عہدے سے استعفا دے دیا۔ قومی اسمبلی کے ایک نو منتخب رکن سردار احمد علی نے اپنے استعفے کے خط میں مسٹر بھٹو کو پاکستان قومی اتحاد کے مطالبات تسلیم کر لینے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اگلے دن قد سابق صوبائی وزیر مسٹر عبدالحفیظ کاردار (ٹیکس) اور مسٹر اعتزاز احسن (کیبنٹ) بھی یہ کہتے ہوئے اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے کہ انہیں اس اسمبلی میں بیٹھنے کی ہمت نہیں پڑتی ...

یقین اور وثوق سے تو یہ کہنا مشکل ہے کہ قومی اسمبلی سے ... استعفے مانگنے کے پیچھے آخر ... تھا یا نہیں، لیکن جس اعزاز و منصب کے حصول کے لیے ان لوگوں نے سب کچھ روا رکھا تھا، اس سے یک بیک اور رضاکارانہ طور پر دستبردار ہونے میں ان کی پیش قدمی بہرحال معنی خیز ہے۔

مسٹر بھٹو نے اب بی بی سی سے انٹرویو میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے اپنے آمرانہ مزاج کے باوجود اس حالیہ تحریک کو بھی اپنے خیالات اور جذبات سے ہم آہنگ قرار دیا ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے نئے انتخابات میں پاکستان قومی اتحاد کو اکثریت حاصل ہو گئی، تو وزیر اعظم اور قومی اسمبلی بھی ... پڑے گی۔ انہوں نے انتخابات کو بلا حقیقت اعتراف کیا ہے کہ بعض لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مزدور، کسان اور اقلیتیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ طبقات بھی اوّل و آخر اسی معاشرے کا حصہ ہیں، جس کے ... تبدیلی نے مسٹر بھٹو کی جاگیردارانہ ... کے بلند و بالا ... کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اب عالمی اور ... کے انتہا پسند بڑی چالاکی کے ساتھ ہنگاموں میں گھس گئے ہیں اور احتجاجی تحریک ان کے ہاتھ میں جا سکتی ہے۔ ہمارے ان سیاست دانوں کی اس قسم کے "لیفٹ" اور "رائٹ" نئی نہیں ہیں جو دوسری عالمی جنگ کے بعد تیسری دنیا کے ملکوں میں ابھرے ہیں۔ یہاں سیاسی طور پر کالعدم نیپ اور اس کی جانشین این ڈی پی عام طور پر "لیفٹ" کی علمبردار یا مظہر قرار دی جاتی ہے۔ لیکن اس کی قیادت نے بھی دوسری اپوزیشن جماعتوں سے انتخابی اشتراک کے لیے پاکستان قومی اتحاد کے منشور پر صاد کر دیا تھا جس کی بنیادی اساس یہی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا قیام کیا جائے۔ پیپلز پارٹی سے بیشتر عناصر جو "انقلابی عناصر" علیحدہ ہوئے تھے، انہوں نے اگرچہ پیپلز پارٹی پر جاگیرداروں کے چھا جانے کا ذکر کیا تھا لیکن ساتھ ہی نفاذ اسلام کے علمبردار پاکستان قومی اتحاد کے مطالبات کی بھی مکمل اور بھرپور تائید کر دی تھی۔ ... بعض حلقوں کی بھی ہے، ان کی بڑی تعداد بھی قومی اتحاد کے مطالبات اور احتجاجی تحریک کی ہمنوا ہوتی جا رہی ہے۔ مسٹر بھٹو اس ... کے حامل ہیں ...

طلب کرنے میں بھی تامل نہیں کیا جائے گا اور اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کیمبل کیتھرز خانہ جنگی کا بھی اسی طرح ... یا سقوط ڈھاکہ ذکر کیا ہے، جس طرح دسمبر ۱۹۷۱ء میں پاک بھارت جنگ سے کچھ عرصہ پہلے انھوں نے ایک (بین الاقوامی) ... دورے سے واپس آنے کے بعد کیا تھا۔ تو پھر وا دم ... مسٹر بھٹو بلاشبہ اپنی سیاسی زندگی کی سب سے نازک اور سنگین آزمائش سے دوچار ہیں، لیکن یہی وہ مرحلہ ہے جب ان کی طرف سے درست فکر اور درست اقدام کا سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو "مرد بحران" بھی کہتے رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس نا بعد انقلابیت بحران سے اس طرح عہدہ برآ ہوں گے کہ انھیں اپنی آنکھوں پر بٹھانے والی قوم اور تاریخ یہ نہ کہے "وہ بحران بھی گئے تھے، اور قوم و ملک کو بحرانوں کے حوالے کر کے چلے گئے"۔ وہ ایک ماہر اور اعلیٰ سیاسی شخصیت ہیں۔ مگر سیاسی مسائل کا حتمی سیاسی حل ہونا چاہیے۔ اور موجودہ حالات میں از سر نو انتخابات کے سوا کوئی حل بظاہر نکلتا نہیں دِکھتا۔ جو قوم کو قبول ہو۔ وزیر اعظم کو اب حرف ملت خانے کے بغیر اس حل کی طرف آنا چاہیے۔

آپ کے خطوط

مدیر محترم!

السلام علیکم! پچھلے اتوار کو ٹورانٹو میں ریڈیو پر ایک پروگرام سنتے ہیں جس کا نام ہے اپنے آپ کو "پاکستانی" کہتے ہیں لیکن اس کے اہل تعلق نہیں ہیں۔ کچھ ٹریڈ فوائد سے پاکستان میں جو قتل و خون اور ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں شہیدوں کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے ... اپنے عزیز ... اور والدین اپنے حقیقی ... سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جا رہا ہے اور ہر محب وطن پاکستانی وطن عزیز کے دگرگوں حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان حالات میں کیا ہم کو یہ زیب دیتا ہے کہ ریڈیو پر گانے پیش کریں اور اپنے ہی حق کا مظاہرہ کریں۔ افسوس ہے پروگرام والے ... سوچتے ہیں کہ انہیں ... تفریح اور نمائش کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر حالات حاضرہ سے یہ لاتعلقی اور بے حسی باعث شرم ہے۔ ہم جو آج کل اپنے وطن کے بارے میں جاننے کیلئے بے چین ہیں ہر ممکن ذریعہ سے خبریں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہوئے ندامت ہوتی ہے کہ ریڈیو کے یہ پروگرام ہی سب سے زیادہ دیر سے نکلے۔

ہم آپ کے اخبار کے ذریعے ان سب لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان کے شایان شان پروگرام نہیں پیش کر سکتے تو اپنے آپ کو "پاکستانی" کہلانا بند کر دیں۔

والسلام

انور عظیم ۔ ٹورانٹو



اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری
اک فقر سے کھلتے ہیں اسرارِ جہانگیری
اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری
اک فقر سے مٹی میں خاصیتِ اکسیری
اک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری
میراثِ مسلمانی سرمایۂ شبیری

(بالِ جبریل)

ساٹھ کروڑ مسلمانوں کا ساتھ ہے

ڈھونڈ کر ہم تم نے بالا گذرا ہے

فرمودہ اقبال

ملائیت اور حکومت بہت ہی ... ہے حکومت اور اقتدار ایک ... ہے ... سے حکومت کے ملنے و ... جاتے ہیں۔ ... کہنا چاہیے کہ اسلام جیسے زندگی کی ... قوت ہے۔ ... تعلیم کے ... قائم اور برقرار رہا۔

گو لیوے یہاں میں تو خوف ہے نہ ہراس
اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسواس
جسے ملا یہ متاعِ گراں بہا اس کو
نہ سیم و زر سے محبت ہے نے غمِ افلاس

درس قرآن

قرآن حکیم میں نفاق کی ایک خاص علامت بیان کی گئی ہے "اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔" (البقرہ آیت ۱۴) معاشرتی اور دینی حیثیت سے اس قسم کے اخلاقی منافقوں کو اردو میں "دو رخا" اور عربی میں "ذوالوجہین" کہتے ہیں۔ احادیث میں اس قسم کے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ بخاری کتاب الادب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قیامت کے دن خدا کے نزدیک تم سب سے برا اس کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو ان کو کچھ اور بتاتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔" دو رخے پن کے لیے صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ایک شخص سامنے ایک کی تعریف کرے اور اس کے پاس سے نکلے تو اس کی برائی بیان کرنے لگے تو بھی وہ دو رخا کہلائے گا۔ نفاق میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو بھی نفاق سمجھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے کہا گیا کہ ہم لوگ امرا اور حکام کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب ان کے یہاں سے نکلتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ "ہم لوگ عہد رسالت میں اس کو شمار نفاق میں کرتے تھے۔" اور پھر قرآن حکیم کی مندرجہ بالا آیت پڑھی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بداخلاقی چغل خوری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ چغل خور صرف ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے اور دو رخا آدمی دونوں کی بات ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی اس عادت ذمیمہ کی تمثیل میں فرمایا کہ "دنیا میں جس کے دو منہ ہوں گے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔" (ابوداؤد)

صیاد کی بیداد

کہیں کا تم بھول بھی جاؤں کبھی شاید
صیاد کی بیداد مگر یاد رہے گی!
نالے ستم افزا ہیں گرفتار کو زباں کر
دل ہی میں نہاں اب میری فریاد رہے گی

اکبر الٰہ آبادی

ملتان میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی کے حامیوں میں جھڑپیں: متعدد افراد زخمی ہو گئے

فریقین نے ایک دوسرے کے پارٹی دفاتر پر حملے کئے

ملک کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے، گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے

ملتان — [illegible]



جناب طارق شاہی اور ان کی نئی نویلی دلہن عزۃ اللہ شاہی
جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے

Are You Facing Racial Discrimination Or Racial Assaults?

PLEASE FILL IN THE FOLLOWING AND SEND TO US: 338 Hollyberry Trail, Willowdale, Ont., Canada M2H 2P6 Phone: (416)493–4374

NAME: ....
PHONE NO: ....
ADDRESS: ....
....

BRIEF DESCRIPTION OF INCIDENT:
(In English or Urdu)

....
....
....
....
....
....

لاہور میں بین الاقوامی سمگلروں کے قبضے سے ۴۶ لاکھ روپے کی چرس پکڑی گئی

ملزم پاکستانی مصنوعات کی پیٹیوں میں چرس رکھ کر امریکہ بھیجا کرتے تھے

گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن کی دو کوٹھیوں سے ایک امریکی باشندے سمیت ۵ ملزم گرفتار کر لئے گئے

[illegible]

ظلم و تشدد ختم ہونے کا وقت آگیا ہے

[illegible]

لاہور میں وکلاء کا زبردست احتجاجی مظاہرہ

مظاہرین اسمبلی چیمبرز کے سامنے جا کر پُرامن طور پر منتشر ہو گئے

[illegible]

جنرل شیر علی جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے

[illegible]

پیپلز پارٹی کے آٹھ ارکان اسمبلی کو بار ایسوسی ایشن لاہور سے خارج کر دیا گیا

وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر فوری طور پر مستعفی ہو جائیں، بار کی قرارداد

[illegible]

مولانا شاہ احمد نورانی پیر دل کا دورہ

[illegible]

دِل بہت اُداس ہے!

[illegible]



[illegible]



[illegible] خواتین کا [illegible] سے گزر رہا ہے ۔ [illegible] ایک [illegible] خواتین نے شرکت کی



[illegible] اپریل کو لندن کے ہائیڈ پارک میں پاکستانی قومی اتحاد کے زیر اہتمام نماز جنازہ [illegible] ادا کی گئی ۔ نماز جنازہ مولانا [illegible] نے پڑھائی

کریسنٹ میں اشاعت کے لئے اپنے مضامین اور کمیونٹی کی خبریں بھیجیے

ادارہ

پندرہ روزہ کریسنٹ آپکا اپنا اخبار ہے ۔
اپنے دوستوں میں تعارف کرایئے



[illegible] میں [illegible] کو احتجاجی جلوس [illegible]



[illegible] پاکستان قومی اتحاد کے دفتر میں خواتین کے اجتماع سے [illegible] خطاب کر رہی ہیں [illegible]

ویسٹ انڈیز نے آخری ٹسٹ جیت لیا

کنگسٹن (رائٹر) ویسٹ انڈیز نے پانچویں اور آخری ٹسٹ میچ میں پاکستان کو ۱۴۰ رنز سے شکست دے کر ٹسٹ سیریز جیت لی ۔ اس سے قبل دو میچ برابر رہے تھے اور دونوں ٹیموں نے ایک ایک ٹسٹ جیتا تھا ۔ آخری ٹسٹ کے اسکور رہے ، ویسٹ انڈیز ۲۸۰ اور ۳۵۹ پاکستان ۱۹۰ اور ۳۰۱ ۔ اگرچہ پاکستانی ٹیم کو بیٹنگ کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بہترین ٹیم تصور کیا جاتا ہے مگر اس کی اس ناکامی کے ذمہ دار اس کے بیٹسمین ہی ہیں ۔ پہلی اننگز میں پاکستان نے صرف ۱۹۰ رنز بنائے اور دوسری میں آصف اقبال (۱۳۵) اور وسیم راجہ (۴۴) کے سوا کوئی بھی جم کر نہ کھیل سکا ۔

اسکور بورڈ

ویسٹ انڈیز پہلی اننگز ——— ۲۸۰
(گرینج ۱۰۰ عمران ۶ برائے ۹۰)

پاکستان پہلی اننگز ——— ۱۹۰
(ہارون ۷۲ کرافٹ ۳ برائے ۲۹)

ویسٹ انڈیز دوسری اننگز ——— ۳۵۹
(فریڈرکس ۸۳ گرینج ۸۲ سکندر [illegible] برائے ۵۵ راجہ ۲ برائے ۶)

پاکستان ——— دوسری اننگز

ماجد خان	کیچ فریڈرکس بی کالی چرن	۴
صادق محمد	کیچ گرینج بی کالی چرن	۱۴
ظہیر عباس	کیچ رچرڈز بی کرافٹ	صفر
ہارون رشید	کیچ گرینج بی گارنر	۲۱
آصف اقبال	سٹمپ مرے بی جولین	۱۳۵
وسیم راجہ	کیچ فریڈرکس بی ہولڈر	۴۴
عمران خان	کیچ [illegible] بی ہولڈر	۲۳
سرفراز نواز	بی گارنر	۸
وسیم باری	رن آؤٹ	صفر
سکندر بخت	ناٹ آؤٹ	صفر
فاضل	(بائی ۳ نو بال ۲)	۵
میزان		۳۰۱

وکٹ گرنے کی رفتار

بولنگ کا تجزیہ

ہولڈر	۱۸	۹	۵۶	—
کرافٹ	۲۰	۵	۸	۳
گارنر	۱۸.۳	—	۶۳	۲
جولین	۸	۳	۹۹	۳

حج درخواستیں یکم مئی سے ۱۵ مئی تک وصول کی جائیں گی

حجاج کرام کی مشکلات ختم کرنے کیلئے درخواستیں قبل از وقت طلب کی جا رہی ہیں

اس سال حاجیوں کو دو دو سو کے گروپوں میں تقسیم کر دیا جائے گا

تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی: کوثر نیازی

اسلام آباد — [illegible]



ملتان شہر کے پیپلز پارٹی کے سعد ویمنٹ چیئرمین اپنے ساتھیوں سمیت قومی اتحاد میں شامل ہو گئے

ملتان — [illegible]

شہزادی عالیہ کی منگنی ہو گئی

[illegible]

ننھے منے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے؟

دیوار

[illegible]

پاکستانی سفارت خانہ میں بم کا دھوکہ

[illegible]

ضلع جہلم میں دفعہ ۱۴۴ کا نفاذ

راولپنڈی — [illegible]

اُفق کے اُس پار

حسنی (ٹورانٹو)

وطن عزیز پر پھر اچانک سیاہ گھٹا ئیں چھا گئیں - پاک سرزمین پھر خون آشام معرکے میں رنگی گئی - سینکڑوں افراد گولیوں کا نشانہ بنے - ہزاروں زخمی ہوئے اور لاکھوں کی مالیت کا نقصان ہوا - روزمرہ کی زندگی معطل ہو کر رہ گئی۔

ابھی کل ہی عوامی دربار لگا تھا - عوامی عدالت میں عوام ہی کی مرضی سے فیصلے ہو رہے تھے - پھر اچانک عوامی جلسوں میں دستار گریبان چھین گیا - کہ مشتعل ہجوم کسی عوامی لیڈر کے خلاف نعرے لگانے لگا۔

یوں تو ملک کی ۳۰ سالہ زندگی میں کئی مدّو جزر آئے - ایک تو ۱۹۴۷ء کا خون آشام معرکہ تھا - کئی گھر لٹے - پورے ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے بالعموم اور مشرقی پنجاب میں بالخصوص مسلمانوں نے اپنے لہو سے تاریخ میں پاکستان کے نام سے ایک نئے باب کا اضافہ کیا - مسلمانوں نے اپنے اس نئے گھر کی بنیادیں اپنے خون سے سینچیں - سرحدوں کی حد بندی مہاجروں کے قافلوں میں شامل بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے گرم لہو سے کی گئی۔

پھر ایک اور نازک مرحلہ بھی آیا - جب وطن عزیز دو حصوں میں کٹ گیا - بھائیوں نے اپنے ہی بھائیوں کے گلے کاٹے - یہ اسلامی تاریخ کا ایک خوفناک سانحہ تھا - دور اغیار نے اس سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھایا - بھارتی سیاست نے ۱۹۶۵ء کی جنگ کا بدلہ اس طرح چکایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان سے براہ راست جنگ کرنے اور شکست کھانے میں خسارہ ہے - مسلمان کو مسلمان سے لڑوا دو - ایک مضبوط جسم سے بہتر آزمانا ہو کر رسوا ہونے سے کیا فائدہ - اس جسم کو کاٹ ڈالو - اس جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھارت ماتا کے معدے میں ہضم ہوتے چلے جائیں گے۔

بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد جونہی کسی اسلام پسند لیڈر یا خود مختار لیڈر نے سر اٹھانے کی کوشش کی، سرحد پار سے محمود کی چھوٹی خفیہ نظروں نے اس کی روح کھینچ ڈالی - آزادی کے بعد بھی آزادی اور خود مختاری کی حدود کے خاکے دہلی میں کھینچے جانے لگے - پانچ صدیاں حکمرانی کرنے والا

مسلمان آج چند ساہوکاروں کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا - یہ سوال ہماری آئندہ نسلیں ضرور پوچھیں گی - اسی طرح جیسے قرطبہ اور اشبیلیہ کے کھنڈرات میں دبے ہوئے اسلامی سلطنت کے نقوش تلاش کرتے ہوئے ہم آج بہت سے سوال کر ڈالتے ہیں - بات یہیں ختم ہو جاتی تو شاید ہم زخموں کے مندمل ہونے کا انتظار کرتے - بچے کھچے پاکستان کی نشو ونما کے لئے کوشش ہوتی - پھر سے کسی نئے دور کا آغاز ہوتا -

لیکن شہر و تانگے والے کے لئے تو ایوب خان کا بدترین دور بھی آج کے دور سے بہتر تھا - جب اس نے نیا تانگہ خریدا تھا جواب بالکل خستہ ہو چکا ہے - آج اس کی سواریوں میں زیادہ تعداد مفت خوروں کی ہوتی ہے - جو پولیس والے ہوتے یا پی پی پی کے کارندے - انکار کی صورت میں یا تو اس کا چالان ہو جاتا یا پھر راشن، پانی بند - کیونکہ اس کی اپنی خوراک اور گھوڑے کے چارے کی ترسیل پر پی پی پی کا مکمل کنٹرول تھا -

آج کے ان ہنگاموں میں نہ جلنے کتنے شیرو ہیں - طیش میں آکر جنہوں نے پی پی پی کے انہیں کارندوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے - وہ بھی شاید شیرو ہی تھے جنہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے روٹی کا کیا حشر ہوا - انہیں آئندہ کئی برسوں تک صبح سویرے لہراتا پی پی پی کا ڈنڈا نظر آیا - ان کی قوت برداشت جواب دے گئی - گھر گھر کے جلنے کی بجائے وہ پولیس کی گولیوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور ہزاروں نے خود کو گرفتاری کے لئے پیش کر دیا - کیونکہ ان کے لئے قید کی کوٹھڑی اور باہر کی گھٹن میں کوئی بھی تو فرق نہیں رہ گیا تھا -

کیا یہ حضرات کسی مشتعل ہجوم سے وابستہ نہیں تھے -؟

کیا ۱۹۳۰ میں لمبا جلوس عوام نے نہیں نکالا تھا - ؟

کیا جنرل نیازی کے جلسہ میں ایک لاکھ کی تعداد میں عوام ہی نہیں آئے تھے - ؟

لیکن برسراقتدار طبقہ "حکمرانیت" کے نشے میں قوم کے جسم کی ہر لمحے بڑھتی ہوئی حرارت کی شدت کو محسوس نہ کر سکا۔

الیکشن میں دھاندلیوں قوم نے اپنے زخموں پر نشتر کی طرح محسوس کیں - اور پھر گذشتہ چند برسوں سے پکتا ہوا لاوا ابل پڑا -

کراچی کے ساحل سے بلتستان کی پہاڑیوں تک صرف ایک آواز تھی اللہ اکبر - پنجاب کے میدانوں، سندھ کے ریگستانوں، بلوچستان اور سرحد کی وادیوں اور پہاڑوں میں جو صدائیں بلند تھیں پھر بھی تھیں ان کا مفہوم یہی نکلتا تھا کہ "اسلامی نظام کا احیا ہو" -

آج کی یہ عوامی تحریک صرف ظلم کی چکی میں پسنے والے انسانوں ہی کی آواز نہیں - بلکہ یہ اس نظریئے کی بھی آواز ہے جس کی اساس پر ملک کی بنیاد رکھی گئی - اس وقت استعماری قوتیں اور اسلام دشمن عناصر اس تحریک کو کچلنے میں کوشاں ہیں - نہ صرف موجودہ حکمرانوں کے علاوہ بلکہ مغربی طاقتیں بھی اس تحریک کی شدت کو اپنے لئے خطرہ سمجھتی ہیں - اگر پاکستان میں یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ تحریک ایک طوفان بن کر اٹھتی ہے اور چین کے ساحل سے لیکر کاشغر کی خاک تک اپنے راستے کے ہر کفر کو تختہ و تاراج کرتی چلی جاتی ہے -

مغربی پریس کو بھی پاکستان سے پیار ہے اور نہ ہی موجودہ حکمرانوں سے الفت - ان کی آنکھوں میں تو مسجد کا ملا کھٹکتا ہے - انہیں خدشہ ہے کہ پاکستان کی باگ ڈور کہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ نہ آ جائے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی سلطنت کا روپ نہ دے بیٹھیں - اسی وجہ سے پاکستان کی موجودہ قیادت ہی (جو ایک شخص واحد کے گرد گھومتی ہے) انہیں دنیا جہان کی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں - اور اپنے خیالات کا اظہار وہ کچھ یوں کرتے ہیں:

یہ شاندار قیادت ہے!

یہ عقلمند اور ذہین قیادت ہے

یہ نئی تہذیب کی دلدادہ قیادت ہے -

اس نے ۴۲ خاندانوں کا قلع قمع کیا ہے -

اس نے کسانوں کو بہتر زندگی مہیا کی ہے -

اس نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے -

اور اس قیادت کے مخالفین پاکستان کو صدیوں پرانے نظام میں واپس لوٹا دینا چاہتے ہیں -

یقیناً قیادت شاندار ہے - کیونکہ اسی کے زیر سایہ رشوت، بدعنوانی، اشیاء خورونی کی نایابی، بے راہ روی، بدمعاشی، فحاشی اور عریانی میں شاندار اضافہ ہوا - موجودہ قیادت ذہین ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ بڑی چابکدستی سے سادہ لوح عوام کے جذبات کو پرکشش نعروں سے بھڑکایا - اور انہیں بے وقوف بنانے کی کوشش کی - مگر کب تک ؟ ملک کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا ہے - یا ملک کا نام کتنا روشن ہوا!

ہے - یہ تو تاریخ ہی بتلائے گی - البتہ ٹوٹے ہوئے آئینے میں خوب صورت چہرے بھی بدنما نظر آتے ہیں - یہاں آئینہ ہی ٹوٹا ہوا نہیں، چہرے کو بھی دو حصوں میں کاٹ دیا گیا ہے - پھر ہم کیسی ساکھ کی بات کر رہے ہیں -

وہ عوامی تحریکیں جو شخص واحد کے گرد نہیں گھومتیں - جن کے کل پرزے خریدے ہوئے پالتو انسانوں پر مشتمل نہیں ہوتے ان تحریکوں کو طاقت سے دبایا نہیں جا سکتا - ان ہنگاموں نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم پر آمریت مسلط نہیں کی جا سکتی - انہیں اب تمام نہاد اور بے معنی نعروں سے بہکایا نہیں جا سکتا - بلکہ قوم خالص اسلامی نظام کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے - ایسا نظام جس کے اندر ملک کی تمام اخلاقی، سماجی اور معاشی بیماریوں کا علاج موجود ہے۔

٭ ٭ ٭

متحدہ محاذ کے سرکردہ سیاستدانوں کو ماضی کے تجربات اور موجودہ حالات سے بہت کچھ سیکھنا ہے - کیا انکا یہ اتحاد عارضی ہے - کیا اس کی میعاد برسراقتدار پارٹی کو نکال باہر کرنے کے بعد ختم ہو جائیگی - اور ہر مقتدر سیاسی لیڈر پھر سے دست و گریباں ہو جائیگا - یہ سوال ہر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں اس وقت ابل رہے ہیں - ان کا جواب آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے کہ قوم کو ابھی کتنے مزید امتحان دینے باقی ہیں - لیکن اگر یہی متحدہ محاذ سنہ ۷۰ کے الیکشن سے پہلے معرض وجود میں آ گیا ہوتا تو شاید آج پاکستان کا نقشہ اتنا سکڑ نہ گیا ہوتا - یا آج تک اس امتحان سے ہمیں نہ گذرنا پڑتا -

ٹھیک کی جاتی - جو کہ حالیہ واقعات نے ہی مختلف سیاسی پارٹیوں کو شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع دیا ہے ان کی کارکردگی دور رس نتائج کی حامل ہو گی - اقتدار کی ہوس اور عوام کا غیظ و غضب جاری ہے - سیاسی رہنماؤں کے سامنے ہے - اور یہ بھی انکے سامنے ہے کہ ڈیڑھ اینٹ کی علیحدہ مسجد اور ایک پرچم تلے جمع ہونے میں کیا فرق ہے۔

دور افق کے پار اس جوار بھاٹے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قوم میں زندگی کے آثار موجود ہیں - جب قومیں زندہ ہوں تو ان پر جبری تسلط ممکن نہیں ہو سکتا

ہلالی پرچم پر خون کے چھینٹے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ قربانی رائیگاں نہیں جائیگی -

احتجاج

سیکرامنٹو - پاکستان کے سیاسی حالات کے پیش نظر یہاں پاکستان مسلم ایسوسی ایشن سیکرامنٹو، حلقہ اسلامی کیلیفورنیا اور چند دیگر تنظیموں کے تعاون سے ACTION COMMITTEE FOR DEMOCRACY IN PAKISTAN قائم ہو چکی ہے - یہ کمیٹی یہاں کے مقامی اخبارات سے مل کر انہیں پاکستان کے حالات سے باخبر کر کے ان سے ایڈیٹوریل لکھنے کی درخواست کر چکی ہے - جس کے نتیجے میں چند روز قبل سیکرامنٹو بی ایڈیٹوریل نوٹ میں بھٹو صاحب کو شرم دلا چکی ہے -


ایکشن کمیٹی نے صدر پاکستان، افواج پاکستان کے سربراہوں، روزنامہ نوائے وقت، اکانومسٹ لندن، کرنل قذافی، کنگ خالد، شاہ حسین، شاہ ایران اور دوسرے مسلم سربراہوں کو NIGHT LETTERS اور تاروں کے ذریعہ پاکستانی عوام کے ساتھ بھٹو کے ظلم و زیادتی کی طرف توجہ دلائی ہے اور اپنے اس ریزولیشن کی نقول ارسال کی ہیں۔

We Pakistanis living in Northern California through out Action Committee for Democracy in Pakistan Sac; view the recent events in Pakistan with a sense of shame and agony. We condemn the use of Federal Security force and police against unarmed peaceful demonstrators voicing the demands of the entire nation. There is no doubt now that March 7 election have been rigged. We therefore demand:

1. *Immediate resignation of the present government & establishment of a civilian caretaker Government.*
2. *Fresh & Impartial election under judiciary.*
3. *Immediate release of all political prisoners.*

مرسلہ: ابراہیم ہمدانی





شمالی امریکہ میں اردو کا سب سے پہلا اور کثیر الاشاعت اخبار

پندرہ روزہ

کریسنٹ

انٹرنیشنل

ٹورانٹو کینیڈا

یکم مئی ۱۹۷۷ء مطابق ۱۳ جمادی الاول ۱۳۹۷ھ — جلد نمبر ۶ — شمارہ نمبر ۴

لاہور میں پولیس تشدد کے خلاف ملک بھر میں زبردست مظاہرے

کراچی، حیدرآباد اور کئی دوسرے شہروں میں مظاہرین پر فائرنگ

سات افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے، مختلف مقامات پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی

گوجرہ کے پولنگ سٹیشنوں پر وسیع پیمانے پر دھاندلیوں کا ارتکاب کیا گیا

ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں، لیڈی پریذائیڈنگ افسران کا بیان

مجھے دھاندلی سے باز رکھنے پر بجلی کا جھٹکا دیا گیا، ایک پریذائیڈنگ افسر کا بیان



رسول اکرم ؐ کا شاہ ہرقل کے نام نامہ مبارک اردن کے شاہ حسین کے پاس محفوظ ہے

محمد علی ارمی کو سپین کے باکسر سے مقابلہ کرے گا

لاہور میں ہزاروں افراد نے پولیس فائرنگ سے جاں بحق ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی

خواتین اور بچوں کے پرامن جلوس پر لاٹھی چارج تاریخ اسلام کا بدترین واقعہ ہے: علامہ ظہیر